

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے نئی انٹگریٹی کمشنر اور لابیونسٹ رجسٹرار کی تعیناتی کر دی

برامپٹن، آن (10 جولائی 2019) – آج برامپٹن سٹی کونسل نے نے لیوٹ ایل ایل پی (Levitt LLP) کی مونیزا شیخ کو انٹگریٹی کمشنر اور لابیونسٹ رجسٹرار کے مشترکہ عہدے پر تعینات کر دیا ہے جس کا اطلاق مورخہ 11 جولائی سے ہو جائے گا۔

مونیزا انٹگریٹی کمشنر کی قائم مقام انچارج سوزانے کریگ سے اپنے عہدے کا چارج لیں گی۔

انٹگریٹی کمشنر کے طور پر، مونیزا کونسل کے ضابطہ اخلاق کے نفاذ کی نگرانی کے علاوہ میئر اور کونسلر کے اخلاقی رویے پر لاگو ہونے والے شہر کے ضمنی قوانین، طریقہ ہائے کار، قواعد اور پالیسیوں کی نگرانی بھی کریں گی۔

لابیونسٹ رجسٹرار کے طور پر، وہ شہر کی لابیونسٹ اینڈ گفٹ رجسٹریز اور ساتھ ہی ساتھ لابیونسٹ ضابطہ اخلاق کے نفاذ کی نگرانی بھی کریں گی۔ لابیونسٹ رجسٹرار کے پاس شکایات پر تفتیش کرنے اور اگر لابیونگ کے عمل کو ظاہر نہ کیا جائے یا کسی شخص کی جانب سے لابیونسٹ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیے جانے پر پابندیاں لگانے کا اختیار رکھتے ہیں۔

اپنے دونوں کرداروں کے لیے، وہ شکایات، تفتیشوں اور مشورے کا خلاصہ پیش کرنے والی رپورٹیں بنائیں گی اور شہر کے احتساب کے عمل میں بہتری کے لیے سفارشات بھی پیش کریں گی۔

کچھ محترمہ مونیزا کے متعلق

مونیزا لیوٹ ایل ایل پی میں سینئر پارٹنر کی حیثیت رکھتی ہیں اور GTA میں لیبر ایمپلائمنٹ قوانین میں خصوصی مہارت کی حامل ہیں۔ بڑی کارپوریشنز میں کام کرنے سے مونیزا کو نہایت قابل قدر مہارت حاصل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جائے کار پر متنوع ملازمین کو کام سے وابستہ رکھنے کے حوالے سے متعدد ورکشاپس بھی منعقد کی ہیں۔ اپنی جانی مانی قائدانہ صلاحیتوں کی بناء پر مونیزا کنیڈا کے بڑے براڈ کاسٹ میڈیا، بشمول کیرویل میک نیل کے ساتھ CBC پینل میں، باقاعدگی سے شریک ہوتی رہتی ہیں۔

اپنے فارغ وقت میں وہ کینیڈین مسلم ووٹ میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں جس میں وہ کینیڈا کے مسلمانوں کی جمہوری عمل کے ساتھ وابستگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہیں۔

اقتباس

"برامپٹن کی نئی انٹگریٹی کمشنر نہ صرف ایک نمایاں حیثیت کی قانونی ماہر اور جمہوری عمل کی بہت بڑی حامی ہیں بلکہ وہ برامپٹن کی گلدستہ نما کمیونٹی میں جڑے ایک خوبصورت پھول کی نمائندہ بھی ہیں۔ وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جن کا تقرر برامپٹن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فل کٹریکٹ پر بطور انٹگریٹی کمشنر ہوا ہے۔ ان کی قیادت میں یہ کونسل بھرپور شفافیت کو قائم رکھنے اور طرز حکمرانی کو شاندار سے شاندار تر بنانے کے لیے پُر عزم ہے، جو برامپٹن کو ایک بہتر نظم و نسق والا شہر بنانے کے لیے ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر رابطہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

